

سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- | | |
|--|--|
| ① پڑھو (وہ نبی) اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا | ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١﴾ |
| پیدا کیا انسان کو (لفظہ مخلوق کے معنی ہوئے خون سے ②) | خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ |
| پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے ③ | اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ |
| جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعہ سے ④ | الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ |
| سکھایا انسان کو وہ علم جو نہیں جانتا تھا وہ ⑤ | عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ |
| خبردار! بے شک انسان ضرور سرکش ہو جاتا ہے ⑥ | كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْفَىٰ ۝٦ |
| اس بنا پر کہ دیکھتا ہے وہ خود کو بے نیاز ⑦ | أَن يَرَاهُ اسْتَعْجَلَىٰ ۝٧ |
| بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ⑧ | إِن إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَىٰ ۝٨ |
| بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے ⑨ | أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝٩ |
| ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے ⑩ | عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝١٠ |
| بھلا دیکھو تو اگر ہو (وہ بندہ) راہِ راست پر ⑪ | أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۝١١ |
| یا تلقین کرتا ہو پرہیزگاری کی ⑫ | أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝١٢ |
| تمہارا کیا خیال ہے اگر جھٹلاتا ہو یہ (منع کرنے والا) اور نہ مومنانا ہو ⑬ | أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٣ |
| کیا نہیں جانتا وہ کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ ⑭ | الْحَمُّ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْرَىٰ ۝١٤ |

خبردار! اگر نہ باز آیا وہ

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهْذِ

تو ضرور گھسیٹیں گے ہم اسے، پیشانی کے بل ⑮

لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ⑮

پیشانی جو جھوٹی بھی ہے خطا کا بھی ⑮

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑮

پس بلائے وہ اپنے حامیوں کی ٹولی کو ⑮

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ⑮

ہم بھی بلائے لیتے ہیں عذاب کے فرشتوں کو ⑮

سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ ⑮

خبردار! نہ مانو کہا اس کا

كَلَّا لَا تَطْعُمُهُ

اور سجدہ کرو (اپنے رب کو) اور قرب حاصل کرو ⑮

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ⑮